

Quranic Arabic Grammar

قرآنک عربک گرامر

Lesson - 11

شیخ ارشد بشیر عمری مدنی

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA), MBA.

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean The ABM School, Hyd.

📞 +91 92906 21633 (whatsapp only)



البواب ثلاثی مجرد و مزید فیہ

01

Abwaabe Sulaasi mujarrad wa mazeed feeh
Trilateral Verb and Trilateral Derived Verb

البواب رباعی مجرد

02

Abwaab rubaaee mujarrad - Four Letter Verb

ضَرَبَ يَضْرِبُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	۱
نَصَرَ يَنْصُرُ	فَعَّلَ يَفْعَلُّ	۲
سَمِعَ يَسْمَعُ	فَعِلَ يَفْعَلُ	۳
فَتَحَ يَفْتَحُ	فَعَّلَ يَفْعَلُّ	۴
كَرَّمَ يَكْرُمُ	فَعَّلَ يَفْعَلُّ	۵
حَسَبَ يَحْسِبُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	۶

ان اوزان کو ترازو کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے

Arshad Basheer Madani Notes

<p>نَصَرَ يَنْصُرُ ، نَصْرًا وَنُصْرَةً ، فهو ناصِرٌ ، وهي ناصِرةٌ والجمع : نُصَارٌ ، وَنُصُورٌ وهو وهي نصِيرٌ والجمع : أَنْصَارٌ ، والمفعول مَنْصُور</p>	<p>نَصَرَ: (فعل)</p>
<p>ذَهَبَ / ذَهَبَ إِلَى / ذَهَبَ بِـ / ذَهَبَ عَلَى / ذَهَبَ عَنِ / ذَهَبَ فِي يَذْهَبُ ، ذَهَابًا وَذُهُوبًا ، فهو ذاهِبٌ وَ ذُهوبٌ ، والمفعول مذهُوبٌ إليه ، ذَهَبَ ذَهَابًا ، ذُهُوبًا ، مَذْهَبًا</p>	<p>ذَهَبَ: (فعل)</p>
<p>فَتَحَ / فَتَحَ عَلَى يَفْتَحُ ، فَتَحًا ، فهو فاتِحٌ ، والمفعول مَفْتُوحٌ - للمتعدِّي</p>	<p>فَتَحَ: (فعل)</p>
<p>ضَرَبَ / ضَرَبَ إِلَى / ضَرَبَ بِـ / ضَرَبَ عَلَى / ضَرَبَ عَنِ / ضَرَبَ فِي يَضْرِبُ ، ضَرْبًا وَضَرْبَانًا ، فهو ضاربٌ ، والمفعول مضروبٌ - للمتعدِّي</p>	<p>ضَرَبَ: (فعل)</p>
<p>سَمِعَ / سَمِعَ إِلَى / سَمِعَ لـ يَسْمَعُ ، سَمَاعًا وَسَمْعًا ، فهو سامِعٌ وسمِيعٌ والجمع : سَمَاعٌ ، وَسَمْعَةٌ وهو سَمَاعٌ ، وهي سامِعَةٌ ، وَسَمَاعَةٌ ، والمفعول مَسْمُوعٌ</p>	<p>سَمِعَ: (فعل)</p>
<p>حَسِبَ يَحْسِبُ وَيَحْسِبُ ، حِسْبَانًا ، فهو أَحْسَبٌ ، وهي حَسْبَاءٌ والجمع : حُسْبٌ ، والمفعول مَحْسُوبٌ</p>	<p>حَسِبَ: (فعل)</p>

Arshad Basheer Madani Notes

نہی Nahi Negative Imperative tense	امر Amr Imperative tense	مضارع مجبور Muzarre majhool Passive present/ future	ماضی مجبور Mazi majhool Passive Past tense	اسم مفعول Ism maf-ool Object noun	اسم فاعل Ism fa'el Subject noun	مصدر Masdar noun	مضارع Muzaare Present & future tense	ماضی Maazi Past tense
لَا تَفْعَلْ	فَعِلْ	يَفْعَلُ	فُعِلَ	مَفْعَلٌ	مَفْعِلٌ	تَفْعِيلٌ / تَفْعِيَةٌ	يَفْعَلُ	فَعَلَ
لَا تَفْعَلْ	فَاعِلٌ	يُفَاعِلُ	فُوعِلَ	مَفَاعِلٌ	مَفَاعِلٌ	مَفَاعِلَةٌ / فِعَالٌ	يُفَاعِلُ	فَاعَلَ
لَا تَفْعَلْ	أَفْعَلْ	يَفْعَلُ	أَفْعِلَ	مَفْعَلٌ	مَفْعِلٌ	إِفْعَالٌ	يَفْعَلُ	أَفْعَلَ
لَا تَفْعَلْ	تَفْعَلْ	يَتَفَعَّلُ	تَفْعَلْ	مَتَفَعَّلٌ	مَتَفَعَّلٌ	تَفَعَّلٌ	يَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلَ
لَا تَفْعَلْ	تَفَاعَلْ	يَتَفَاعَلُ	تَفُوعَلْ	مَتَفَاعَلٌ	مَتَفَاعَلٌ	تَفَاعَلٌ	يَتَفَاعَلُ	تَفَاعَلَ
لَا تَفْعَلْ	اِنْفَعَلْ	---	---	---	مِنْفَعَلٌ	اِنْفَعَالٌ	يَنْفَعَلُ	اِنْفَعَلَ
لَا تَفْعَلْ	اِنْفَعِلْ	يَنْفَعِلُ	اِنْفَعِلْ	مَنْفَعِلٌ	مَنْفَعِلٌ	اِنْفَعَالٌ	يَنْفَعِلُ	اِنْفَعَلَ
لَا تَفْعَلْ	اِفْعَلْ / اِفْعَلْ	---	---	---	مَفْعَلٌ	اِفْعَالٌ	يَفْعَلُ	اِفْعَلَ
لَا اِسْتَفْعَلْ	اِسْتَفْعَلْ	يَسْتَفْعَلُ	اِسْتَفْعِلْ	مَسْتَفْعَلٌ	مَسْتَفْعِلٌ	اِسْتَفْعَالٌ	يَسْتَفْعَلُ	اِسْتَفْعَلَ
لَا تَفْعَالِ	اِفْعَالِ	---	---	---	مَفْعَالٌ	اِفْعِيَالٌ	يَفْعَالُ	اِفْعَالَ

Forms of 4 Letter Verb

Abvaab-e-Rubaaee mujarrad

ابواب رباعی مجرد

لَا تَفْعَلْ	فَعِلْ	يَفْعَلُ	فُعِلَ	مَفْعَلٌ	مَفْعِلٌ	فَعْلَةٌ	يَفْعَلُ	فَعَلَ
--------------	--------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	--------

الَّذِي يُوَسِّوْنَ فِي صُدُورِ
النَّاسِ

خصائص مزید فیہ

مجرد کو مزید بنانے میں حسب ذیل مختلف اغراض کارفرما ہوتے ہیں:

<p>تعدیہ، لازم کو متعدی کرنا یا اگر فعل متعدی ہو تو ایک اور مفعول کا اضافہ کرنا، جیسے فَرَحَ (وہ خوش ہوا) سے فَرَحْتَهُ (میں نے اس کو خوش کیا)</p> <p>تکثیر، مفعول کی تکثیر مراد ہو جیسے قَطَعْتُ الْجَبَلَ (میں نے رسی کے بہت سے ٹکڑے کیے)</p> <p>نسبت، مفعول کی نسبت اصل فعل کی طرف مقصود ہو جیسے كَفَّرْتَهُ (میں نے اس کو کفر کی طرف منسوب کیا اور اس کو کافر ٹھہرایا)</p> <p>سبب، کسی چیز سے ماخذ کو دور کرنا، جیسے قَشَّرْتُ الْعُودَ (میں نے لکڑی سے اس کا چھلکا دور کیا)</p> <p>انتحاذ، کسی اسم کو ماخذ بنانا، جیسے خِيمَ الْقَوْمِ (لوگوں نے خیمے لگائے)</p>	<p>فَعَّلَ</p>
<p>اشتراک، دو شخصوں کا مل کر کوئی کام کرنا جن میں ہر ایک فاعل بھی ہو اور مفعول بھی، جیسے ضاربٌ زیدٌ عمرًا (زید نے عمرو کو اور عمرو نے زید کو مارا پیٹا)</p> <p>موافقت فَعَّلَ، فَعَّلَ کے ہم معنی ہونا، جیسے ضَاعَفْتُ الشَّيْءَ (میں نے اس کو دو چند کر دیا) بمعنی ضَعَفْتُهُ۔</p> <p>موافقت أَفْعَلَ، أَفْعَلَ کے ہم معنی ہونا جیسے بَاعَدْتُهُ (میں نے اس کو دور کیا) بمعنی أَبْعَدْتُهُ۔</p> <p>موافقت مجرد، مجرد کے ہم معنی ہونا جیسے سَافَرَ زَيْدٌ (زید نے سفر کیا) بمعنی سَفَرَ</p>	<p>فَاعَلَ</p>
<p>تعدیہ، جیسے خَرَجَ زَيْدٌ (زید نکلا) سے أَخْرَجْتُهُ (میں نے اس کو نکالا)</p> <p>دخول، ماخذ میں آنا جیسے أَمْسَى زَيْدٌ (زید شام میں داخل ہوا)</p> <p>قصد، کسی جگہ کا قصد کرنا جیسے أَعْرَقَ (عراق کا قصد کیا)</p> <p>صیرورت، صاحب ماخذ ہونا جیسے أَلَبَنَ الْبَقْرُ (گائے دودھ والی ہو گئی)</p> <p>مبالغہ، کسی شے کی کیفیت یا مقدار کی زیادت بیان کرنا جیسے أَسْفَرَ الصُّبْحُ (صبح خوب روشن ہو گئی)</p> <p>وجدان، کسی چیز کو ماخذ کے ساتھ متصف پانا جیسے أَبْخَلْتُ زَيْدًا</p> <p>عرض، مفعول کو محل ماخذ میں پیش کرنا جیسے أَبَعْتُ الْفَرَسَ (میں نے گھوڑے کو بیچنے کی جگہ یعنی منڈی میں برائے فروختگی پیش کیا۔)</p> <p>سلب، جیسے أَشْكَيْتُهُ (میں نے اس کی شکایت دور کی)</p> <p>حیونیت، کسی چیز کا ماخذ کے وقت کو پہنچانا، جیسے أَحْصَدَ الزَّرْعَ (بھتی کاٹنے کا وقت آ پہنچا)</p> <p>موافقت مجرد، جیسے أَقْلْتُ الْبَيْعَ (میں نے بیچ کو فسخ کیا)</p>	<p>أَفْعَلَ</p>

<p>مطاوعتِ فَعَلٍ، فَعَلَ کے بعد اس کا اس غرض سے آنا کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کیا، جیسے عَلِمْتُ فَتَعَلَّمُ (میں نے اس کو سکھایا تو وہ سیکھ گیا)</p> <p>تکلف، ماخذ میں تَضَع و بناوٹ ظاہر کرنا، تَشَجَعُ عَمْرُو (عمرو بتکلیف بہادر بنا)</p> <p>اتخاذ، کسی چیز کو بنانا ماخذ میں لینا جیسے: تَابَطَ الصَّبِيُّ عَمْرُو (عمرو نے بچہ بغل میں لیا)</p> <p>تجنب، ماخذ سے پرہیز کرنا، جیسے: تَأْتَمُّ (اس نے گناہ سے پرہیز کیا)</p> <p>صیورت، جیسے: تَمَوَّلَ زَيْدٌ (زید مالدار ہو گیا)</p> <p>تدریج، کسی کام کو آہستہ آہستہ کرنا جیسے: تَجَرَّعَ زَيْدٌ (زید نے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیا)</p> <p>طلب، جیسے تَعَجَّلَ الشَّيْءَ (اس نے کسی چیز میں عجلت چاہی)</p> <p>انتساب، جیسے تَبَدَّى (بادیہ کی طرف منسوب ہوا)</p>	تَفَعَّلَ
<p>اشتراک، جیسے تَشَاتَمًا (دونوں نے ایک دوسرے کو گالی دی)</p> <p>مطاوعتِ فاعِل، جیسے بَاعَدَتْهُ فِتْبَاعِدَ (میں نے اس کو دور کیا تو وہ دور ہو گیا)</p> <p>تخیل، وہ صفت ظاہر کرنا جو درحقیقت نہ ہو جیسے: تَمَارَضَ (اس نے اپنے آپ کو مریض ظاہر کیا۔)</p> <p>تدریج، جیسے تَوَارَدَ الْقَوْمُ (لوگ ٹھہر ٹھہر کر آئے، بدفعات آئے)</p> <p>موافقت مجرد، جیسے تَعَالَى اللَّهُ بِمَعْنَى عَلَاً</p>	تَفَاعَلَ
<p>مطاوعتِ فَعْلٍ، جیسے جَمَعَتْهُ فَاجْتَمَعَ (میں نے اس کو جمع کیا تو وہ جمع ہو گیا)</p> <p>اتخاذ، جیسے: اِحْتَجَرَ الْفَارُ (چوہے نے بل بنایا)</p> <p>مبالغہ، جیسے اِكْتَسَبَ (اس نے کسب میں مبالغہ کیا)</p> <p>طلب، جیسے اِكْتَدَّ فُلَانًا (اس نے فلاں سے مشقت طلب کی)</p> <p>موافقت فَعْلٍ، جیسے اِجْتَدَبَ بِمَعْنَى جَذَبَ</p> <p>موافقت تَفَاعَلَ، جیسے اِخْتَصَمَ بِمَعْنَى تَخَاصَمَ</p>	اِفْتَعَلَ
<p>مطاوعتِ اِنْفَعَلَ، جیسے اِنْفَعَلَ الْبَابُ فَانْفَعَلَ (اس نے دروازہ بند کیا تو وہ بند ہو گیا)</p> <p>مطاوعتِ فَعْلٍ، جیسے كَسَّرْتُهُ فَانْكَسَرَ (میں نے اس کو توڑا تو وہ ٹوٹ گیا)</p> <p>فائدہ: باب انفعال ہمیشہ لازم آتا ہے متعدی نہیں اور ہمیشہ ایسے معانی کے لیے آتا ہے جن کا تعلق اعضائے ظاہری سے ہو۔</p>	اِنْفَعَلَ

<p>دخول، کسی صفت میں داخل ہونا، جیسے: أَحْمَرُ الْبُسْرُ (کھجور نے سرخی پکڑ لی) مبالغہ، جیسے إِسْوَدَ اللَّيْلُ (رات بہت تاریک ہو گئی) فائدہ: باب افعال اکثر الوان و عیوب کے لیے آتا ہے۔</p>	إِفْعَلَّ
<p>طلب، جیسے: اسْتَعْفَرَ (اس نے مغفرت طلب کی) وجدان، جیسے: اسْتَكْرَمْتُ (میں نے اس کو کرم سے متصف کیا) تحول، قلب ماہیت یا صفت ہو کر ماخذ بن جانا، جیسے اسْتَحْجَرَ الطِّينُ (مٹی پتھر ہو گئی) تکلف، جیسے اسْتَجْرَأَ (اس نے جرأت بتکلف دکھائی) مطابقت افعال، جیسے أَقْتَهُ فَاسْتَقَامَ (میں نے اس کو سیدھا کیا وہ سیدھا ہو گیا) موافقت مجرد، جیسے اسْتَقَرَّ بِمَعْنَى قَرَّ</p>	اسْتَفْعَلَ
<p>مبالغہ، إِحْمَارًا (اس کی سرخی تیز ہو گئی) فائدہ: وزن افعال، الوان و عیوب کے لیے مخصوص ہے۔</p>	إِفْعَالًا

Write the Conjugation of Past Tense, Present Tense and Future Tense and write the conjugation of the Command.

In Af'Aal ki Maazi, Muzaaria aur Amr ki tasreef likhiye

ان افعال کی ماضی، مضارع اور امر کی تصریف لکھیے

										سَمِعَ
										يَسْمَعُ
										اسْمَعُ
										حَزِنَ
										يَحْزَنُ
										احْزَنُ
										حَسِبَ
										يَحْسِبُ
										احْسِبُ
										حَفِظَ
										يَحْفَظُ
										احْفَظُ
										خَسِرَ
										يَخْسِرُ
										اخْسِرُ
										رَحِمَ
										يَرْحَمُ
										ارْحَمْ
										شَهِدَ
										يَشْهَدُ
										اشْهَدْ

							عَلِمَ
							يَعْلَمُ
							إِعْلَمَ
							عَمِلَ
							يَعْمَلُ
							إِعْمَلْ
							كَرِهَ
							يَكْرَهُ
							إِكْرَهُ

Identify the past tense, present, future tense, command and negative command in Surah Nooh

Surah Nooh me fel Maazi, Muzaaria, Amr, aur Nahi ko pehchaaniye

سورہ نوح میں فعل ماضی، مضارع، امر اور نہی کو پہچانیے

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿1﴾ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿2﴾ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿3﴾ يَعْزِزْ لَكُمْ مِنْ دُونِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿4﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿5﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿6﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا ﴿7﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ﴿8﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿9﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿10﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿11﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿12﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿13﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿14﴾ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿15﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿16﴾ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿17﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجْكُمْ مِنْهَا إِخْرَاجًا ﴿18﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿19﴾ لَتَسْلُكُنَّ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿20﴾ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مِنْ لَدُنْهُمْ مَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْإِلَّا حَسَارًا ﴿21﴾ وَمَكْرُوهًا مَكْرًا كُبَرًا ﴿22﴾ وَقَالُوا لَا تَدْرِنَ الْهَيْتُكُمْ وَلَا تَدْرِنَ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَعْوَتُ وَيَعُوقُ وَنَسْرًا ﴿23﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿24﴾ إِنَّمَا خَطْبُكُمْ إِلَيْنَا إِذْ قَدْ فَدَخَلُوا أَنَا قَالُوا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿25﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيًّا ﴿26﴾ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿27﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿28﴾

Exercise : 4

Use Appropriate Past tense and future tense

Munaasib fel Maazi aur Muzaaria daakhil keehiye

مناسب فعل ماضی اور مضارع داخل کیجیے

.....خدیجہ الی مکہ غدا .3

.....القارعة .2

.....حامد .1

.....أبی فی الشهر القادم .5

.....الرسالة قبل يوم .4

Exercise : 5

Identify Past tense and present tense, translate and identify the trilateral verb and Trilateral derived verb.

Fel Maazi aur fel Muzaaria ko pehchaan kar tarjama keehiye aur sulaasi mujarrad aur sulaasi mazeed feehi nishaandehi keehiye

فعل ماضی فعل مضارع کو پہچان کر ترجمہ کیجیے اور ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فیہ کی نشاندہی کیجیے

قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ «لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ عَدَا رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَيَّ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ». فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَتَيْتُهُمْ يُعْطَى فَعَدُوا كُلُّهُمْ يَزْجُوهُ فَقَالَ «أَيْنَ عَلِيٌّ». فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ. فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ. فَبَرَأَ كُلُّهُمْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. فَقَالَ «انْفُذْ عَلَيَّ رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ. وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَحِبُّ عَلَيْهِمْ. فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ».

Arshad Basheer Madani Notes

ترجمہ:

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

ثلاثی مزید فیہ Thulaasi mazeed feehi Trilateral Derived Verb	ثلاثی محسوس Thulaasi mujarrad Trilateral Verb

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Arshad Basheer Madani Notes

Arshad Basheer Madani Notes

تصريف کا معنی لکھیے اور اپنی صلاحیت کا امتحان لیجیے۔

Tasreef ka mana likhiye aur apni salaahiyat ka imtehaan lijiye.

Write the meaning of below conjugation and test your ability.

فعل Fel - Verb	فعل Fel - Verb	صیغہ Segha - Pattern
سَمِعَ	رَفَعَ	واحد مذکر غائب
سَمِعَا	رَفَعَا	ثثنیہ مذکر غائب
سَمِعُوا	رَفَعُوا	جمع مذکر غائب
سَمِعَتْ	رَفَعَتْ	واحد مؤنث غائب
سَمِعَتَا	رَفَعَتَا	ثثنیہ مؤنث غائب
سَمِعْنَ	رَفَعْنَ	جمع مؤنث غائب
سَمِعْتَ	رَفَعْتَ	واحد مذکر حاضر
سَمِعْتَا	رَفَعْتَا	ثثنیہ مذکر حاضر
سَمِعْتُمْ	رَفَعْتُمْ	جمع مذکر حاضر
سَمِعْتِ	رَفَعْتِ	واحد مؤنث حاضر
سَمِعْتُمَا	رَفَعْتُمَا	ثثنیہ مؤنث حاضر
سَمِعْتِنَّ	رَفَعْتِنَّ	جمع مؤنث حاضر
سَمِعْتُ	رَفَعْتُ	واحد متکلم
سَمِعْنَا	رَفَعْنَا	جمع متکلم

ترجمہ کیجیے اور صیغہ پہنچائیے Tarjama kejiye aur segha pehchaniye Translate and Identify the pattern	
اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی۔ (واحد مذکر غائب) Allah ne unke dilao per meher lagadi. (Wahid muzakkar gayeb)	خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
یقیناً ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ () _____ yaqeenahum hi toh islah karne wale hai. (_____)	قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
اللہ ان کا نور _____۔ () Allah unka noor _____.	ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ
اس نے انہیں اندھیروں میں _____ دیا، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ () Usne inhe andheraon mai _____ diya, wo nahi dekh sakte. (_____)	تَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ
وہ جس نے تمہیں _____۔ () _____	الَّذِي خَلَقَكُمْ
وہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش _____۔ () Wo jisne zameen ko tumhare liye farsh _____.	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا
جسے اللہ نے ملانے کا _____۔ () Jayse Allah ne milane ka _____.	أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
تو _____ سوائے ابلیس کے۔ () Tu _____ siwaye Iblees ke. (_____)	فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
تو _____ ان کی _____۔ () Tu _____ unke _____.	فَتَابَ عَلَيْهِ
تو جس نے میری ہدایت _____۔ () Tu jis ne meri hidayat _____.	فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ
وہ جنہوں نے ہماری آیات _____۔ () Wo jinhoan ne humari aayat _____.	الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا
جب ہم نے تمہارے لیے سمندر _____۔ () Jab hum ne tumhare liye samandar _____.	إِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ
پھر _____۔ () Phir _____.	ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ

تیسویں پارے سے مجرد اور مزید فیہ نکالیے

Teeswein paare se mujarrad aur mazeed feeh nikaliye

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

AskIslamPedia
Arshad Basheer Madani Notes

Vocabulary

اسماء (قرآن مجید)

حوالہ	تعداد	English	اردو ترجمہ	Roman	عربی	Sl.no.
2:255	2699	Allaah	اللہ	Allaah	اللہ	1
2:126	975	Lord	رب	Rabb	رَبُّ	2
2:11	461	Earth	زمین	Arz	أَرْضُ	3
11;5	383	Folk/ people	قوم	Qaum	قَوْمٌ	4
2:118	382	Verse/ sign	نشانی / آیت	Aayah	آيَةٌ	5
2:116	358	All	سب	Kul	كُلُّ	6
2:87	332	Messenger	رسول	Rasool	رَسُولٌ	7
1:3	325	Day	دن	Yaum	يَوْمٌ	8
2:7	322	Punishment	عذاب	Azab	عَذَابٌ	9
2:19	310	Sky	آسمان	Samaa'	سَّمَاءٌ	10
2:48	295	Soul	نفس / جان	Nafs	نَفْسٌ	11
2:20	283	Thing	چیز	Shay	شَيْءٌ	12
2:2	260	Book	کتاب	Kitaab	كِتَابٌ	13
2:42	242	Truth	حق	Haq	حَقٌّ	14
114:1	241	Mankind	لوگ	Naas	نَاسٌ	15
2:4	197	Before	پہلے	Qabl	قَبْلُ	16
2:8	195	Believer	مومن	Mu'min	مُؤْمِنٌ	17
2:108	176	Way	راستہ	Sabeel	سَبِيلٌ	18
2:117	166	Matter	حکم / معاملہ	Amr	أَمْرٌ	19
2:85	157	Part	بعض	Ba'z	بَعْضٌ	20
2:54	148	Best	خیر / بھلائی	Khair	خَيْرٌ	21
2:133	147	God	معبود	Ilaah	إِلَٰهٌ	22
2:17	145	Fire	آگ	Naar	نَارٌ	23
1:7	144	Not / Other	غیر	Ghair	غَيْرٌ	24
2:165	135	Other than	سوائے	Doona	دُونُ	25

اسماء (قرآن مجید)

حوالہ	تعداد	English	اردو ترجمہ	Roman	عربی	Sl.no.
2:8	133	Last	آخر	Aakhir	آخِرٌ	26
2:27	133	After	بعد میں	Ba'd	بَعْدُ	27
2:97	132	Heart	دل	Qalb	قَلْبٌ	28
2:221	131	Slave	بندہ	Abd	عَبْدٌ	29
2:126	127	People	اہل	Ahl	أَهْلٌ	30
5:64	120	Hand	ہاتھ	Yad	يَدٌ	31
2:254	119	Disbeliever	کافر	Kaafiroon	كَافِرُونَ	32
2:157	114	Mercy	رحمت	Rahmah	رَحْمَةٌ	33
2:62	105	Reward	اجر / بدلہ	Ajr	أَجْرٌ	34
2:51	105	Wrongdoer	ظالم	Zaalim	ظَالِمٌ	35
2:32	105	Knowledge	علم	Ilm	عِلْمٌ	36
2:7	104	Great	عظیم / زبردست	Azeem	عَظِيمٌ	37
2:115	101	Knowing	جاننے والا	Aleem	عَلِيمٌ	38
2:35	96	Paradise	جنت	Jannah	جَنَّةٌ	39
2:132	92	Religion	دین	Deen	دِينٌ	40
2:59	92	Word	بات	Qaul	قَوْلٌ	41
6:8	88	Angel	فرشتہ	Malak	مَلَكٌ	42
2:17	87	Example	جیسا کی طرح	Masal	مَثَلٌ	43
23:55	86	Wealth	مال	Maal	مَالٌ	44
4:45	86	Ally	ولی	Wali	وَلِيٌّ	45
2:2	85	Guidance	ہدایت	Huda	هُدًى	46
2:209	84	Wise	حکمت والا	Hakeem	حَكِيمٌ	47
2:64	84	Favor	فضل	Fazl	فَضْلٌ	48
2:3	83	Prayer	نماز	Salaah	صَلَاةٌ	49
2:51	82	Night	رات	Lail	لَيْلٌ	50

اسماء (قرآن مجید)

حوالہ	تعداد	English	اردو ترجمہ	Roman	عربی	Sl.no.
2:40	80	Children	بچے	Bani	بَنِي	51
2:36	80	Satan	شیطان	Shaitaan	شَيْطَانٌ	52
2:3	78	Companions	اصحاب / ساتھی	Ashaab	أَصْحَابٌ	53
2:100	78	Most	اکثر	Aksar	أَكْثَرُ	54
3:12	77	Hell	جہنم	Jahannam	جَهَنَّمَ	55
2:86	76	Life	حیات	Hayaat	حَيَاةٌ	56
2:200	76	Remember	ذکر	Zikr	ذِكْرٌ	57
39:6	76	Spouse	جوڑا	Zauj	زَوْجٌ	58
12:77	75	Brother	بھائی	Akh	أَخٌ	59
2:137	75	Same / Like	مش	Misl	مِثْلٌ	60
3:146	75	Prophet	نبی	Nabi	نَبِيٌّ	61
112:1	74	One	ایک	Ahad	أَحَدٌ	62
47:15	74	Eternally	ہمیشہ رہنے والا	Khalid	خَالِدٌ	63
2:85	74	World	دنیا	Dunya	دُنْيَا	64
2:47	73	Worlds	جہانوں	Aalameen	عَالَمِينَ	65
2:10	72	Painful	درد ناک	Aleem	أَلِيمٌ	66
4:91	72	Clear	واضح	Mubeen	مُبِينٌ	67
11:9	71	Man	انسان	Insaan	إِنْسَانٌ	68
5:90	71	Work	عمل	Amal	عَمَلٌ	69
2:112	71	Face	وجہ	Wajh	وَجْهٌ	70
2:85	70	Resurrection	قیامت	Qiyaamah	قِيَامَةٌ	71
2:125	65	House	گھر	Bait	بَيْتٌ	72
16:48	65	Right	دائیں	Yameen	يَمِينٌ	73
2:133	64	Fathers / Forefathers	باپ دادا	Aabaa	آبَاءٌ	74
2:128	64	Nation	امت	Ummah	أُمَّةٌ	75

اسماء (قرآن مجید)

حوالہ	تعداد	English	اردو ترجمہ	Roman	عربی	Sl.no.
2:87	63	Son	بیٹا	Ibn	ابن	76
2:220	63	Exalted in Might	عزت والا	Azeez	عَزِيزٌ	77
4:43	63	Water	پانی	Maa'	مَاءٌ	78
2:25	62	Righteous deeds	نیک	Saalihaat	صَالِحَاتٌ	79
2:173	62	Forgiving	بخشنے والا	Ghafoor	غَفُورٌ	80
2:41	61	First	پہلا	Awwal	أَوَّلٌ	81
2:23	59	Truthful	سچا	Saadiq	صَادِقٌ	82
4:1	59	Women	عورتیں	Nisaa'	نِسَاءٌ	83
2:119	58	Warner	ڈرانے والا	Nazeer	نَذِيرٌ	84
15:88	57	Eye	آنکھ	Aen	عَيْنٌ	85
2:58	57	Town	گاؤں	Qaryah	قَرْيَةٌ	86
2:164	56	Day	دن	Nahaar	نَهَارٌ	87
3:47	56	Child	لڑکا	Walad	وَلَدٌ	88
6:157	55	Clear evidence	واضح نشانی	Bayyinah	بَيِّنَةٌ	89
2:60	55	Provision	رزق	Rizq	رِزْقٌ	90
54:54	54	River	نہر	Nahar	نَهْرٌ	91
3:103	53	All	سب	Jamee'	جَمِيعٌ	92
6:2	52	Stipulated time	معیّن وقت	Ajal	أَجَلٌ	93
23:17	52	Creation	مخلوق	Khalq	خَلْقٌ	94
4:110	50	Bad	برا	Soo'	سُوْءٌ	95
2:19	50	Death	موت	Maut	مَوْتُ	96
2:40	50	Favor	نعمت	Ni'mah	نِعْمَةٌ	97
2:97	49	Enemy	دشمن	Aduw	عَدُوٌّ	98
2:3	49	Unseen	غیب	Ghaib	غَيْبٌ	99
2:2	49	Cautious	پرہیزگار	Muttaqeen	مُتَّقِينَ	100



Conversation



AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes

PASSPORT

پاسپورٹ

جواز السفر

Passport

پاسپورٹ

جواز السفر

10

کیا یورپ کے سفر کے لیے مجھے پاسپورٹ لازم ہے۔

اردو

هَلْ يَلْزَمُنِي جَوَازُ سَفَرٍ لِرِحْلَتِي إِلَى أُوْرُبَّا؟

عربی

Do I need a passport for my trip to Europe?

English

Hal yalzamuni jawaazu safarin lirihlati ila aurubba?

Roman



إِذَا كَانَ لَدَيْكَ جَوَازُ سَفَرٍ فِي حِيَاازَتِكَ
فَيُمْكِنُكَ تَجْدِيدُهُ

عربی

اردو

اگر آپ کے پاس پہلے ہی سے پاسپورٹ ہے، تو آپ اس کی تجدید کر سکتے ہیں۔

Iza kaana ladaika jawaazu safar fi hiyaazatik
fayumkinuka tajdeeduhu

Roman

English

If you already have a passport in your possession, you can have it renewed.



نہیں، میرے پاس نہیں ہے۔

اردو

لَا، لَيْسَ عِنْدِي

عربی

No, I don't have one.

English

la laisa indi

Roman



إِذَنْ يَلْزَمُكَ جَوَازُ سَفَرٍ مِنْ جَدِيدٍ

عربی

اردو

تب تو آپ کے لیے نئے پاسپورٹ کی ضرورت ہے۔

Izan yalzamuka jawaazu safarin min jadeed

Roman

English

then you need to have a new passport.



أَتَحْمِلُ مَعَكَ ثَلَاثَ صُورٍ؟

عربی

اردو

کیا آپ اپنے ساتھ تین فوٹو لائے ہیں؟

A tahmilu ma'aka salaasa suwar?

Roman

English

Did you bring with you three photographs?



جی ہاں، یہ رہے وہ۔

اردو

أَجَل، هَا هِيَ ذِي

عربی

Yes, here it is.

English

Ajal, ha hiya zee

Roman



جواز السفر



عربی

إملاً هذه الإستمارة وادفع الرسوم اللازمة من فضلك

اردو

یہ فارم مکمل کیجیے اور برائے مہربانی ضروری فیس ادا کیجیے۔

Roman

Imla' haazihil istimaarah wadfa' ar-rusoomal-laazimah min fazlik

English

Please fill in this form and pay the necessary fees.

کیا میرے لیے ویزا لازم رہے گا۔

اردو

أَتَلْزَمُنِي تَأْشِيرَةَ خُرُوجٍ؟

عربی

Do I need an exit visa?

English

A talzamuni ta'sheerata khurooj?

Roman



عربی

طبعاً

اردو

جی ہاں، بالکل

Roman

Taba'an

English

yes, of course!

ويزا کا حصول کہاں سے ممکن ہوگا؟

اردو

مِنْ أَيْنَ يُمَكِّنُ الْحُصُولُ عَلَى التَّأْشِيرَةِ؟

عربی

Where can I get a visa from?

English

Min ayna yumkinul husoolu alat-ta'sheerah?

Roman



عربی

مِنَ الْقُنْصُلِيَّةِ (سَفَارَةِ)

اردو

قونصل خانہ سے (سفارت خانہ سے)

Roman

Minal qunsuliyah (safaarah)

English

From the consulate. (embassy).



عربی

وَيُمْكِنُكَ أَيضًا أَنْ تَحْصُلَ عَلَى تَأْشِيرَةِ عُبُورٍ فِي الْمَطَارِ حَسَبِ النِّظَامِ الْمُسْتَعْمَلِ

اردو

اور آپ کے لیے ہوائی اڈے پر ٹرانزٹ ویزا کا حصول بھی ممکن ہے، عام قانون کے مطابق۔

Roman

Wa yumkinuka aizan an tahsula ala ta'shirati uboor fil mataar hasban-nizamil mutbi'

English

And also you can get a transit visa in the airport according to normal practice.



تغییر العملہ

Currency Exchange

کرنسی کا تبادلہ

اگر آپ کو دقت نہیں ہے تو میں اس کرنسی کو بدلنا چاہتا ہوں۔

اردو

لَوْ سَمَحْتَ أَوْدُ أَنْ أَصْرِفَ هَذِهِ الْعُمْلَةَ

عربی

If you don't mind, I would like to change this currency.

English

Lau samahta awaddu an asrifa haazihil-umlah

Roman

أَيَّةُ عُمْلَةٍ عِنْدَكَ؟

عربی

آپ کے پاس کونسی کرنسی ہے؟

اردو

Ayyatu umlatin indak?

Roman

What currency do you have?

English

میرے پاس ایک ہزار ڈالر ہیں اور میں اس کو دینار میں بدلنا چاہتا ہوں۔

اردو

لَدَيْيَ أَلْفُ دُولَارٍ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَصْرِفَهَا إِلَى دِينَارٍ

عربی

I have a thousand dollars and i want to change it to dinar.

English

Ladayya alfu dulaar wa ana ureedu an asrifahaa ila dinaar

Roman

ایک ڈالر کتنے میں ہے؟

اردو

بِكَمْ الدُّوْلَارِ الْوَاهِدِ؟

عربی

How much for one dollar?

English

Bikamid-dularul-wahid?

Roman

حَوَالِي ثَلَاثَةِ دِينَارٍ

عربی

تقریباً تین دینار

اردو

Hawaalai salaasatu dinaar

Roman

About three dinar.

English

تب تو ایک ہزار ڈالر کے تین ہزار دینار ہوں گے۔

اردو

إِذَنْ، لِأَلْفِ دُولَارٍ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِينَارٍ

عربی

Then, for a thousand dollars, three thousand dinar.

English

Izan,Lilalfi dulaarin salaasatu aalafi dinaar

Roman

نَعَمْ، أَنْتَ عَلَى حَقٍّ

عربی

جی ہاں، آپ نے ٹھیک کہا۔

اردو

Na'am, anta ala haqq

Roman

Yes, you are right.

English

آپ کی مدد کا شکریہ

اردو

شُكْرًا عَلَيَّ مُسَاعَدَتِكَ

عربی

Thank you for your help!

English

Shukran ala musaa'adatik

Roman

الحمد لله الذي
بنعمته تتم الصالحات

